

upload clear image next time !!

Exercise 2

جب میں لے گی میں تمہارا کھا کر چاؤ اور میٹھا کھاؤں گا۔ اور میں تمہارے کھانے کو کھانے میں لے گی۔ آسمان تمہارے سے میرا اور تمہارا اور سبزی مائیں پھلے لیس
لے ہو اور صحت سزاگ پر 100 اور تک لہنی 100 مہرہ فنی کھیر رکھی تھی۔ انا کا آدمی اور میرا اور میرا کھائی دے رہا تھا۔ اور کئی کئی پلے کے پار سونہ کی
طرف گھروں کی راہ پر گاجران تھا ساٹروں کے تمہارے کی ہاپ کو لٹھی تھی۔ میں نے اپنے اور کوٹ 100 اور اپنی کر لیا۔

Exercise 3

Exercise # 2

It was almost midnight when
I stepped into the street.

There was a cold nip in
the air. The sky was filled
with stars, and greenish and
yellow lamp spread its light
across the smooth road. A

small number of people were
seen, here and there.

And the steps of solitary people
were seen from the

houses beside the sea. I

turned up the collar of my
overcoat.

this is incomplete

translate word to word

Example 8.4

Consider another example:

“What is a home without children. It is like a summer day without sunshine, a man without a smile. We want an excuse to play, a justification for doing foolish things and romping about as if we were not serious men and women and the games and laughter and high spirits of children give us the justification we need. They bring sunshine into our lives, for they are a ceaseless fount of merriment, dissolvers of care, deniers of boredom.”

Example 8.4

Children make our lives better.

~~Precis:~~

Children are an essential part of our homes. They give us reasons of pleasure and spirits of naive. They make our lives shiny and joyful.

Total words:

79

Precis words:

25

both are satisfactory

6/10

7/20